




امام احمد رضا
و اور
قُنْتَفِسِر

تالیف
مشیح محمد فضل احمد اولیٰ



امام احمد رضا اور فتن تفسیر

تصنیف : فیض ملت، آفتابِ اہلسنت، امام المذاہرین، رئیس المصنفین
 حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ، و نصلی علی رسولہ الکریم

اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت قدس سرہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربه

یہ شرح صدر ہی تو تھا کہ قلیل عرصہ میں جملہ علوم و فنون سے فراغت پائی ورنہ عقل کب باور کر سکتی ہے کہ چودہ سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون از بر ہوں۔

تانہ بخشد خدائی بخشدہ

ایں سعادت بزور بازو نیست

(یہ سعادت بزور بازو نہیں ملتی جب تک کہ بخششے والا خداوند نے عطا کرے)

اور یہ علوم و فنون صرف از بر نہ تھے بلکہ ہر فن پر مبسوط تصانیف موجود ہیں اور وہ بھی کسی سے مستعار نہیں بلکہ قلمِ رضوی کے اپنے آب دار موٹی ہیں اور تحقیق کے ایسے بنتے ہوئے بحرِ ذخیر کو دیکھ کر بڑے بڑے محققین اگلشت بدندال ہو جاتے ہیں۔ آپ کو قلم کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔

تجربہ اور شواہد بتاتے ہیں کہ جس بندہ خدا کو جس فن کی مہارت نصیب ہو وہ دوسرے فن میں ہزاروں ٹھوکریں کھاتا ہے مثلاً امام بخاری قدس سرہ کو دیکھئے کہ دنیا نے اسلام نے فنِ حدیث کا انہیں ایسا امام مانا ہے کہ جس کی نظر نہیں ملتی لیکن فقہاء کے استنباط اور تاریخی حدیث سے آپ کو وہ مرتبہ حاصل نہیں جو فنِ حدیث میں ہے لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ فن کے ماہرین نے مانا ہے کہ آپ ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں چنانچہ شاعروں نے آپ کو امام الشعراء سمجھا، فقہاء نے آپ کو وقت کا ابوحنیفہ مانا، محدثین نے امیر الحدیث وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے خود اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے لئے فرمایا اور بجا فرمایا۔

ملکِ خن کی شاہی تم کو رضا مسلم

اس وقت فقیر کا موضوع بخوبی تفسیر ہے واضح کروں گا کہ آپ اس فن کے بھی مسلم امام ہیں اگرچہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پورے قرآن پاک کی کوئی تفسیر نہیں لکھی لیکن حق یہ ہے کہ اگر آپ کی تصانیف کا بالا استیعاب مطالعہ کر کے تفسیری عبارات جمع کئے جائیں تو ایک بسیط تفسیر معرض وجود میں آسکتی ہے چنانچہ فقیر اوسی غفرلہ نے اس کام کا آغاز کر رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

شرانط فن تفسیر

امام جلال الملہ والدین حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں لکھا ہے کہ مفسر اُس وقت تک تفسیر قرآن لکھنے اور بیان کرنے کا حق رکھتا ہے جب چودہ فنون کی مہارت حاصل کر لے ورنہ تفسیر نہیں تحریف قرآن کا مرٹکب ہو گا۔
اس قاعدہ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نہ صرف ان چودہ فنون کے ماہر ہیں بلکہ پچاس فنون پر کامل دسترس رکھتے ہیں بلکہ بعض فنون پر آپ کی درجنوں تصانیف ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو مستقل طور پر تفسیر لکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن آپ کی تصانیف سے قرآنی ابحاث کی ایک ضخیم تفسیر تیار ہو سکتی ہے اور فقیر اوسی نے اس کے اکثر اجزاء کو جمع کیا ہوا ہے بنام ”تفسیر امام احمد رضا“ خدا کرے کوئی بندہ خدا اس کی اشاعت کے کمر بستہ ہو جائے۔ (آمین)

علاوہ ازیں تفاسیر پر آپ کی عربی حواشی کے اسماء ملتے ہیں مثلاً

(1) الزلال الانقى من بحر سفينة التقى

(2) حاشیہ تفسیر بیضاوی شریف

(3) حاشیہ عنایت القاضی شرح تفسیر بیضاوی

(4) حاشیہ معالم التنزيل

(5) حاشیہ الاتقان فی علم القرآن سیوطی

(6) حاشیہ الدر المنشور (سیوطی)

(7) حاشیہ تفسیر خازن

علاوہ ازیں بعض آیات اور سورتوں پر آپ کی متعدد تصانیف موضوع تفسیر پر ملتی ہیں جنہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے چند ایک کے اسماء درج ہیں۔

(8) انوار العلم فی معنی میعار واستجب لكم فارسی زبان میں ہے ۱۳۲۱ء تک غیر مطبوع تھی اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تحقیق فرمائی ہے کہ اجابت دعا کے کیا کیا معنی ہے۔ اثر ظاہر نہ ہونا دیکھ کر بے دل ہونا حماقت ہے۔

(9) **الصَّاصَمُ عَلَىٰ مُشْكٍ فِي آيَةِ عِلْمِ الْأَرْحَامِ** اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پادریوں کا رد فرمایا ہے اردو زبان میں طبع شدہ موجود ہے۔

(10) **ابناءُ الْحَقِّ أَنَّ كَابَ الْمَصْوُنَ تَبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرَبِيٍّ** اردو زبان میں ہے اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ثابت فرمایا ہے کہ قرآن مجید اشیائے عالم کی ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔

(11) **النَّفْحَةُ الْفَاجِحةُ مِنْ مَسْلِكِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ** اردو زبان میں ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سورۃ فاتحہ سے حضور اکرم ﷺ کے فضائل کو ثابت فرمایا ہے۔

(12) **نَاثِلُ الرَّاحِ فِي فَرْقِ الرِّيحِ وَالرِّيَاحِ** فارسی زبان میں ہے۔

ذکورہ رسائل صرف تفسیر سے متعلق ہے۔ بعض اوقات کسی مسئلہ کے متعلق استفسار پر آپ نے تفسیری نقطہ نگاہ سے حل فرمایا دراصل آپ کو عالم دنیا سے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے فتاویٰ کے جوابات سے فرصت کم ملی ورنہ اگر اس طرف توجہ دیتے تو تفسیر کا ایک جز ہزاروں صفحات پر پھیلتا۔ صرف **بِسْمِ اللَّهِ** شریف کی تقریر پر مختصر سے وقت میں آپ کا ایک طویل مضمون موجود ہے جو آپ نے عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر بریلی شریف میں بیان فرمایا تھا جو سوانح اعلیٰ حضرت میں صفحہ ۹۸ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۱۲ تک ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا وعظ صفحہ ۱۱۲ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۳۱ تک ختم ہوا یہ بھی تقریر کے رنگ میں ہوا جو تحریر کے میدان میں کسوں دور سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنے صفحات کا مضمون بیان کر جانا کسی مرد میدان کا کام ہے اور وہ بھی مفسرانہ رنگ میں اور پھر **تَفْسِيرُ سُورَةِ الْضَّحْيَ** لکھی تو سینکڑوں صفحات پھیلادیئے۔ جس کی ایک ایک سطر کی تفاسیر کے مجموعہ کو دامن میں لئے ہوئے ہے۔

آپ کے تلامذہ کو رشک ہوتا کہ ایسے بھر بے پایاں کے قلم سے جس طرح فقہ اور حدیث اور دیگر فنون کے دریا بھائے گئے ہیں کچھ تفسیری نوٹ بھی آپ کی یادگار ہوں تو زہے قسمت اگرچہ اجمانی طور پر ہی سہی چنانچہ صدر الشریعة حضرت مولانا حکیم امجد علی صاحب مصنف بہار الشریعت قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے انہوں نے اہلسنت پر احسان عظیم فرمایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عدمی الفرستی کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ لکھوائی لیا چنانچہ سوانح نگار حضرات قرآن مجید کے ترجمے کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ صدر الشریعة حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے گزارش کی آپ نے وعدہ تو فرمایا لیکن دوسرے مشاغل دینیہ کیشہ کے ہجوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی جب حضرت صدر الشریعة کی جانب سے اصرار بڑھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چوں کہ ترجمے کے لئے میرے پاس مستقل وقت نہیں ہے اس لئے آپ رات کو سونے کے وقت یادن میں قیلوں کے وقت آ جایا کریں چنانچہ حضرت صدر الشریعة

ایک دن قلم دوات لے کر حاضر ہو گئے اور یہ دینی کام بھی شروع ہو گیا۔ ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر ترجمہ آئیہ کریمہ کا فرماتے جاتے اور حضرت صدر الشریعۃ لکھتے جاتے لیکن یہ ترجمہ اس طرح پر نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تفسیر و حدیث و لغت کو ملاحظہ فرماتے اور آیات کو سوچتے پھر ترجمہ بیان فرماتے۔ قرآن مجید کافی البدیہ ہے بر جستہ ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے تھے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظہ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زورڈا لے قرآن شریف پڑھتا چلا جاتا ہے۔ علماء کرام جب دوسری تفاسیر سے مقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا یہ بر جستہ ترجمہ تفاسیر معتبرہ کے بالکل عین مطابق ہے۔ الغرض اسی قلیل وقت میں ترجمہ کا کام ہوتا رہا پھر وہ مبارک ساعت بھی آئی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ختم ہو گیا اور حضرت صدر الشریعۃ کی کوشش بیخ کی بدولت سدیت کو کنز الایمان کی دولت عظیمی نصیب ہوئی۔

(فجز اہل اللہ عنا تعالیٰ عنا و عن جمیع اہل السنۃ جزاء کثیراً واجر اجزیلاً)

حضرت محمد پجوہ چھوٹی سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علم قرآن کا اندازہ اس اردو ترجمہ سے کبھی جواکثر گھروں میں موجود ہے اور جس کو کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں ہے اور نہ اردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرالفاظ اس جگہ لا یانہیں جاسکتا جو یہ بظاہر ترجمہ ہے مگر درحقیقت وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور اردو زبان میں روح قرآن ہے بلکہ فقیر اویسی کا ذوق یوں گواہی دیتا ہے۔

ہست قرآن بزبان اردوی پھجوں مشنوی بزبان پہلوی

اس ترجمہ کی شرح میں حضرت صدر الافتضال استاذ العلماء مولانا نعیم الدین علیہ الرحمۃ حاشیہ پر فرماتے ہیں کہ دورانِ شرح میں ایسا کئی بار ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے استعمال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پر دن گزرے اور رات پر رات کثثی رہی اور بالآخر ماخذ ملا تو ترجمہ کا لفظ اٹل ہی نکلا اعلیٰ حضرت خود حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کو سراہا کرتے تھے۔ لیکن اگر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان کے اس ترجمے کو پاتے تو فرمائی دیتے کہ ترجمہ قرآن شئی دیگر است و علم القرآن شئی دیگر ست۔

☆ علماء دیوبند نہ صرف حریف بلکہ وہ آپ کو ہر معاملہ میں ترجیحی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن وہ بھی اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکے کہ واقعی اعلیٰ حضرت کا قرآن مجید کا ترجمہ بالکل صحیح اور درست ہے اور آپ کے ترجمے کے مقابلہ میں موجودہ دور کے تمام اردو ترجم کو دیکھا جائے تو ان میں سینکڑوں غلطیاں ہیں اس لئے محققین نے اس کو دیکھ کر ذیل کی آراء قائم فرمائی ہیں۔

- ۱۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت تفاسیر معتبرہ قدیمہ کے مطابق ہے۔
- ۲۔ اپنی تفویض کے مسلک اسلام کا عکس ہے۔

- ۳۔ اصحاب تاویل کے مذہب سالم کا مovid ہے۔
 - ۴۔ زبان کی روانی اور سلامت میں بے مثل ہے۔
 - ۵۔ عوامی لغات و بازاری زبان سے مکسر پاک ہے۔
 - ۶۔ قرآن پاک کے اصل منشاء مراد کو بتایا ہے۔
 - ۷۔ آیاتِ ربیٰنی کے اندازِ خطاب کو پہنچا ہے۔
 - ۸۔ قرآن کے مخصوص محاوروں کی نشاندہی کرتا ہے۔
 - ۹۔ قادرِ مطلق کی روائے عزت و جلال میں نقشِ عیوب کا دھبہ لگانے والوں کے لئے تنگ بران ہے۔
 - ۱۰۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی عظمت و حرمت کا محافظہ و نگہبان ہے۔
 - ۱۱۔ عام مسلمین کے لئے بامحاورہ اردو میں سادہ ترجمہ ہے۔
 - ۱۲۔ لیکن علماء کرام و مشائخ عظام کے لئے معرفت کا امنڈٹا ہوا سمندر ہے۔
- بس اتنا ہی سمجھو لیجئے کہ قرآن حکیم قادرِ مطلق جل جلالہ کا مقدس کلام ہے اور کنزِ الایمان اس کا مہذب ترجمان ہے۔ فقیر نے جہاں بھی آپ کی تصانیف میں تحقیقِ مفسرانہ دیکھی تو رازی و غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے قلم سے آفرین و تحسین کئی۔ اختصار کے پیش نظر چند ایک نظائر مشتبہ نمونہ خروار ملاحظہ ہوں جو آپ کی تصانیف سے اخذ کئے گئے ہیں۔

پیشانی کا داغ

سائل نے صرف اتنا استفسار کیا کہ بعض نمازوں کو بہ کثرت نماز کے ناک یا پیشانی پر جو سیاہ داغ ہو جاتا ہے اس سے نمازی کو قبر و حشر میں خداوند کریم جل جلالہ کی پاک رحمت کا حصہ ملتا ہے یا نہیں اور زید کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں بغض کا سیاہ داغ ہوتا ہے اس کی شامت اس کی ناک یا پیشانی پر کالا داغ ہوتا ہے یہ قولِ زید کا باطل ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے قلمِ جنیش آئی تو چھ صفحاتِ مفسرانہ حیثیت سے لکھے اور ثابت فرمایا کہ اس نشانی کے متعلق چار قول ماثور ہیں اور ہر ایک کا حکم جدا جدا اور آیت **سِيمَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ** کا ایسا مفہوم ادا فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان اوہاں کا ازالہ فرمایا جو پیشانی کے داغ کو سِيمَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ میں سمجھتے ہیں۔ یہ مضمون سوانح احمد رضا میں چند صفحات پر پھیلا ہوا ہے جو نہایت قابل مطالعہ ہے اور تمام تحقیق تفاسیر معتبرہ کے حوالہ جات سے مزین ہے۔

آیتِ میثاق

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ إِلَيْهِ سے حضور اکرم ﷺ کی فضیلت مطلقہ پر گفتگو فرماتے ہوئے آخر میں تحریر فرمایا اقول
و بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مضمون کو قرآن کریم نے کس قدر مہتمم بالشان تھہرا یا اور طرح طرح سے موکد فرمایا۔
اوّلًا۔ انبیاء علیہم السلام معصومین ہیں زندگی حکم الٰہی کے خلاف ان سے کوئی کام صادر نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ بے طریق امر انہیں
فرمایا کہ اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا مگر اس پر اکتفانہ فرمایا بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا یہ عہد
عہداست بر بکم کا دوسرا پیمان تھا جیسے کلمہ لا اله الا الله کے ساتھ محدث رسول اللہ ﷺ تاکہ ظاہر ہو کہ تمام مساویے
اللہ پر پہلا فرض ربوبیت الٰہی کا اذعان ہے پھر اس کے برابر رسالت محمد یہ ﷺ پر ایمان (ﷺ و بارک و شرف و بجل
وعظم)

ثانیاً۔ اس عہد کو لام تم سے موکد فرمایا **لَوْمَنْ بِهِ التَّصْرِنَه** جس طرح نوابوں سے بیعت سلاطین لی جاتی ہے۔ امام سعی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مُسْتَلِهٍ۔ بیعت اس آیت سے مانخوذ ہوئی ہے۔

ثالثاً۔ نون تاکید

رابعاً۔ وہ بھی ثقیلہ لا کر ثقل تاکید اور دو بالا فرمایا۔

خامساً۔ یہ کمال اہتمام ملاحظہ کجھے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام ابھی جواب نہ دینے پائیں کہ خود ہی تقدیم فرمایا کر
پوچھتے ہیں اقرتم کیا اس امر پر اقرار لاتے ہیں یعنی کمال و تعجیل و تسجيل مقصود ہے۔

سادساً۔ اس قدر پر بھی بس نہ فرمائی بلکہ ارشاد فرمایا **وَأَخْذُتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ أَصْرِي** خالی اقرار ہی نہیں بلکہ اس پر
میرا بھاری ذمہ لو۔

سابعاً۔ **عَلَيْهِ يَا عَلَى هَذَا كِي جَگَ عَلَى ذَالِكُمْ** فرمایا کہ بعد اشارت عظمت ہو۔

ثامناً۔ اور ترقی ہوئی کہ **فَاشَهَدُوا** ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے۔ حالانکہ **مَعَاذَ اللَّهَ** اقرار کر کے کر جانا ان پاک مقدس
جنابوں سے معقول نہ تھا۔

تاسعاً۔ کمال یہ ہے کہ صرف ان کی گواہی پر اکتفاء نہ ہوا بلکہ فرمایا انا معکم من الشاهدين میں خود بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں ہوں۔

عاسراً۔ سب سے زیادہ نہایت کاری یہ ہے کہ اس عظیم جلیل تاکیدوں کے بعد بآنکہ انبیاء علیہم السلام کو عصمت
عطافرمائی یہ سخت شدید تہذیبی فرمادی گئی کہ **فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسَقُونَ** اب جو اس اقرار سے

پھرے گا فاسق تھہرے گا۔ اللہ اللہ یہ وہی اعتنائے تام و اہتمام تمام ہے جو باری تعالیٰ کو اپنی توحید کے بارے میں منظور ہوا کہ ملائکہ مخصوصین کے حق میں بیان فرماتا ہے **و من يقل منهم انى الله من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزى الظالمين**۔ جوان میں سے کہے گا کہ میں اللہ کے سو امیعبدو ہوں اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسے ہی سزادیتے ہیں تسلیم گروں کو گویا اشارہ فرماتے ہیں جس طرح ہمیں ایمان کے جزاً اول **لا اله الا الله** کا اہتمام ہے یوں ہی جزو م محمد رسول اللہ ﷺ سے اعتنائے تام ہے کہ میں تمام جہانوں کا خدا کہ ملائکہ مقریبین بھی میری بندگی سے سرنیبیں پھیر سکتے اور میرا محبوب سارے عالم کا رسول و مقتداء کہ انبیاء و مسلمین بھی اس کی بیعت و خدمت کے محیط وائرہ میں داخل ہوئے اور اس سے قبل اس آیہ کا تبصرہ کئی صفحات پر فرمایا۔ تبصرہ کر کے پھر معتبرہ تفاسیر اور محققین علماء کرام کی تصانیف کے خلاصہ کو دریا در کوزہ کی مثالی قائم فرمائی۔

کلی علم غیب

اور یہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ تھا کہ جب اعدائے دین نے شانِ نبوت و ولایت پر ہاتھ ڈالتا تو اعلیٰ حضرت کا قلم ڈھال بنا اور نہ پہ مہذب اہل سنت کے جمع مسائل کو قرآنی اصول کے مطابق ڈھالنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ حقیقت کو نصف النہار سے زیادہ آشکارا فرمایا چنانچہ علم غیب کلی اہل سنت اور مخالفین کے مابین نزاع کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جب گویا ہوئے تو جلال الملکت والدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لیا۔

چنانچہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے علم غیب کلی کا دعویٰ یوں تحریر فرمایا ”بے شک حضرت عزت و عظمت نے اپنے جبیب کریم ﷺ کو روز اول سے روز آخرین کا علم عطا فرمایا مشرق تک مغرب عرش تا فرش سب انہیں دکھایا **ملکوت السموت والارض** کا شاہد بنا یا، روز ازل سے روز آخرت یعنی روز قیامت تک کے سب **ما کان و ما یکون** انہیں بتائے اشائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور ﷺ کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم جبیب کریم ﷺ ان سب کو محیط ہوانہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغير و كبير پر رطب دیا اس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیروں میں جودا نہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلًا جان لیا **الحمد لله حمدًا** کشیرا۔ بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز ہرگز محمد ﷺ کا پورا علم نہیں **و على الله واصحابه اجمعين وبارك وكرم**

وسلم۔ بلکہ حضور اکرم ﷺ کے علم سے ایک چھوٹا حصہ ہے ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانیں یا ان کا عطا کرنے والا مالک و مولا جل علا (والحمد لله العلي العلي) کتب حدیث و تصانیف علمائے قدیم و حدیث میں اس کے دلائل کا بہت شافی و بیان وافی ہے اس کے بعد آپ علم غیب کے مسئلہ کو قرآنی آیات سے ثابت فرمائکر آخر میں اصول قرآنی پر بحث فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

عبارت اعلیٰ حضرت قدس سرہ

اور اصول میں مبرہن ہو چکا کہ تکرہ جیزفی میں مفید عموم ہے اور لفظ کل تو ایسا عام ہے کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل ہی نہیں ہوتا اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے اور نصوص ہمیشہ ظاہر پر محول رہیں گے بے دلیل شرعی تخصیص و تاویل کی اجازت نہیں ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے نہ حدیث آحاداً گرچہ کیسی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو عموم قرآن کی تخصیص تراخی نہ ہے اور اخبار کا نئخ ناممکن اور تخصیص عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی نہ اس کے اعتماد پر کسی ظنی سے تخصیص ہو سکے۔ **بحمدللہ** کیسے نص صریح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن ﷺ کو اللہ العزوجل نے تمام موجودات جملہ **ما كان وما يكون الى يوم القيمة** جمع من درجات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق و غرب سماء وارض عرض فرش میں کوئی ذرہ حضور ﷺ سے باہر نہ رہا۔ جو کچھ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اصول تفسیر کے طور پر اپنا مسلک واضح فرمایا وہی اصول امام سیوطی سینکڑوں سال پہلے بیان فرمائے چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

**العالم يستفرق الصالح من غير حصر وصيغة كل مبتدأة وما والمعروف بال والاسم الجنس
المضاف والنكرة في سياق العفى العام الباقي في عمومه من خاص القرآن ما كان مخصصاً
لعموم السنة وهو عزيز قال اين الحصار انما يرجع في النسخ الى نقل صريح عن رسول ﷺ وعن
اصحابى يقول آية كذا نسخت كذا قال وحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ
يعرف التقدم والتأخر قال ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من
غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن دفع حكم واثبات حكم تقرر في عهده
والصعب مدفه النقل والتاريخ دون الرأى والاجتهاد قال والناس في هذا بين طرفى نقيض فمن قائل
لا يقبل في النسخ اخبار الاحد العدول ومن يكتفى فيه بقول مفسر او مجتهد والصواب
خلاف قولهما اذا ميق العام للمدح والذم فهل هو باق على عمومه فيه مذاهب احدها نعم اذلا
صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح والذم - الخ**

تبحرو فی فن التفسیر کے نمونے

بالاستعیاب تو نہیں چند آیات کے نمونے تفسیری حیثیت سے فقیر یہاں عرض کرتا ہے۔

(۱) نتاوی افریقہ ۷۱ میں ہے سائل نے عبد المصطفیٰ نام رکھنے کے متعلق سوال لکھا تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عبد المصطفیٰ نام رکھنے کے جواز میں آیہ **و انکحو الایمی منکم والصالحین من عبادکم** سے استدلال فرمایا اس کے بعد تفسیر

القرآن بالحدیث کے قاعده پر آیات کی تفسیر اور اپنے موضوع کو احادیث مبارکہ کے چند حوالہ جات سے مزین فرمایا پھر اس کے بعد تفسیر القرآن بالقرآن جو تفسیر کا اعلیٰ درجہ ہے آیت مذکورہ کے لئے **يَعْبُدُ الَّذِي أَسْرَفُوا** سے استشهاد فرمایا۔ آپ کے استدلال پر فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کو سامنے رکھئے تو یقین آئیگا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ طرز استدلال میں امام رازی ہیں۔

(2) اسی فتاویٰ افریقہ ۱۹ میں سائل نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی بعض تصانیف میں اہل اسلام کو مخاطب فرمایا کیا آپ کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں جب کہ آپ دوسروں کو تمہارا خدا کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے صرف اسی ایک چھوٹے سوال پر اختصار اُس آیات اور دو احادیث سے جواب مرحمت فرمایا جو آپ کی قرآن وانی کا بین بثوت ہے۔

(3) اسی فتاویٰ افریقہ میں بد نہادہب سے بیزاری کے متعلق درجنوں آیات سے استدلال کے بعد متعدد احادیث مبارکہ سے استشهاد فرمایا۔

(4) اسی فتاویٰ افریقہ کے صفحہ ۱۳ پر آیہ وسیلہ کا بیان مفصل مفسر فرمایا کہ جس میں وسیلہ کی تمام شقوق کی تفصیل پھر اس پر اسلاف صالحین کے ارشادات کی تزئین کے بعد پیری مریدی کی تمام اقسام واضح فرمائیں جن میں سچے اور جھوٹے پیروں فقیروں کی پہچان آسان فرمادی جو اسلاف صالحین کی تصانیف میں سمجھا کہیں اسی تحقیق کے ساتھ نہ ملے گی۔ پھر کمال یہ ہے کہ صرف ایک جملہ کی تحقیق پر کتاب کے کئی صفحات پر فرمائے۔ امام فخر الدین رازی قدس سرہ کو ناقدین نے معاف نہ فرمایا کہا امام موصوف آیت کے مضمون کو اتنا طول دیتے ہیں کہ فتن تفسیر کا رنگ بکھر جاتا ہے لیکن ہمارے امام مددوح کا مضمون اتنا بُرہ بہار ہے کہ جتنا طویل ہوتا گیا اتنا فتن تفسیر اجاگر ہوتا چلا گیا ہے۔ اگر وہی ناقدین ہمارے امام مددوح کے مضمون کو دیکھ لیتے تو قلم رضا کو چوم لیتے۔

(5) اکثر مفسرین صرف ناقل ہوتے ہیں استنباط کرنے والے کتنی کے چند ملیں گے لیکن اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اللہ کی طرف سے تائید یعنی نصیب تھی کہ آیت کی تفسیر میں نقول معتبرہ کے ساتھ احادیث مبارکہ سے جب استنباط فرماتے تو دریابہادیتے چنانچہ آیت **إِنَّ أَشْكَرَ لِي وَلُو الْدِيكَ** کی تفسیر میں حقوق **الْأَوْلَادِ عَلَى الْوَالِدِ** اُسی حقوق گنائے جو سب کے سب آیت کی تفسیر سے متعلق اور احادیث مبارکہ سے مستبط ہیں۔ صرف اسی مضمون پر ایک مستقل رسالہ **مُشَعْلَةُ الْأَرْشَادِ** تیار ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور درجنوں بحثیں آیت کی تفسیر میں لائے جنہیں پڑھنے کے بعد تصدیق ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا تجربہ فتن افسیر بے مثال ہے۔

(6) اجمالي آيات کی تفسیر میں مفسرین کا ہمیشہ اختلاف چلا آ رہا ہے لیکن مفسرین کی عادت رہی ہے کہ اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کرتے وقت زیادہ درجنوں دلائل قائم کئے لیکن اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا طرز نزالہ ہے کہ جب اپنے موقف کی توضیح فرماتے ہیں تو سینکڑوں دلائل و برائیں حوالہ قلم فرماتے ہیں چنانچہ جگلی الحقیقین کی تصنیف آپ کے شہسوار قلم ہونے کی جیتی جاتی دلیل ہے کہ منکرین نے جب آقائے کوئین ماوائے ٹھقین رحمت گل ہادی سبل سید المرسلین ﷺ کی افضیلت کا انکار کیا تو درجنوں آیات قرآنیہ مع حوالہ جات تفاسیر مستنده اور درجنوں احادیث صحیحہ اور اقوال اور اسلاف صالحین کی تصنیفات سے استدلال فرمایا اس تصنیف پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو یوں انعام نصیب ہوا کہ حبیب کبریا ﷺ نے زیارت بشارت سے نوازا جس کا ذکر امام اہلسنت نے جگلی الحقیقین کے آخر میں خود بیان فرمایا ہے۔

(7) صرف ایک آیت پر سینکڑوں صفحات پر کتاب لکھ دی جو پوری کتاب تفاسیر کے حوالہ جات کے علاوہ اپنے استنباطات کے ساتھ اصول تفسیر سے موضوع کو مضبوط و موثوق فرمایا مثلاً آیت ممتحنه کی تفسیر الحجۃ الموثمنہ قابلی مطالعہ کتاب ہے۔

(8) مختلف مسائل پر تفاسیر گئے ہیں تو تفاسیر کے حوالہ جات کے ذہیر لگادیئے چنانچہ ما اهل لغير الله به کی توثیق میں تفاسیر معتبرہ کے حوالہ جات لکھوائے حیات اعلیٰ میں ۳۶ تفاسیر کی عبارت لکھوائیں پھر بھی فرمایا ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔

(9) تفسیر میں قرآنی نکات بیان فرمائے تو خود مفسرین حیرت میں آگئے۔ مفہوم شریف حصہ چارام میں فرمایا ساتوں آسمان سات زمینیں دنیا ہیں اور ان سے وراء سدرۃ المنتهى ہے، عرش، کرسی وار آخرت۔ دار دنیا شہادت ہے اور وار آخرت غیب۔ غیب کی کنجیوں کو مفہوم اور شہادت کی کنجیوں کو مقایلہ کہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے و عند مفاتیح الغیب لا یعلمہما الا هو اور دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے لہ مقالید السموت والارض مفاتیح کا حرف اول میم (م) اور آخری حرف حا (ح) اور مقالید کا پہلا حرف اور آخرہ مرکب کرنے سے نام اقدس ظاہر ہوتا ہے یعنی (محمد ﷺ) اسی سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ غیب و شہادت کی کنجیاں سب اسے دی گئی ہیں یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کو کوئی شے ان کے حکم سے باہر نہیں۔

وَ جَهَنَّمْ نَهْيَنْ إِيمَانَ دُلْ وَ جَانَ نَهْيَنْ
کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہاں نہیں

یا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم و مقالید غیب و شہادت سے جھرہ خفایا عدم میں مغلظ تھی۔ مفہوم مقلا و جس سے ان کا قفل کھولا گیا اور میدانِ ظہور میں لا یا گیا۔ وہ ذات..... محمد رسول اللہ ﷺ اگر یہ تشریف نہ لاتے تو سب اسی طرح مغلظ جھرہ

عدم یا خفایہ میں رہتے۔

وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے

(10) اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تبحیر فن التفسیر سمجھتے یا کرامت کے خلاف عادت قرآن کی آیات بر جستہ مخالف کو جواب دیا چنانچہ ایک رافضی نے کہا کہ **انا من المجرمين منتقموں** کے عدد ۱۲۰۲ ہیں اور یہی عدد ابو بکر، عمر، عثمان کے ہیں (معاذ اللہ) اعلیٰ حضرت قدس سرہ یہ سن کر بے قرار ہو گئے فوراً بلا تاخیر بر جستہ کئی صفحات جوابات بیان فرمائے وہ جوابات سنئے۔ (رافضی لعنهم اللہ تعالیٰ) کی بناء نہ ہب ایسے ہی اوہام بے سرو پا پر ہے۔

او لا۔ ہر آیت عذاب کے عدد اسماء اخیار سے مطابق کر سکتے ہیں اور ہر آیت ثواب کے اسماء کفار سے کہ اسماء میں وسعت وسیدہ ہے۔ رافضی نے آیت کو ادھر پھیرا کوئی ناصبی ادھر پھیرے گا اور (رافضی ناصبی) دونوں ملعون ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ﷺ کے نام پاک میں الف نبیں لکھا جاتا تو عدد بارہ سوا یک ہیں نہ کہ دو۔

(1) ہاں رافضی..... بارہ سودو (۱۲۰۲) عدد کا ہے کہ ابن سبا اور رافضہ۔

(2) ہاں رافضی..... بارہ سو عدد ان کے ہیں۔ اپنیس، زیاد، اہن زیاد، شیطان الطاق کلینی با بوسیتی طوی حلی۔

(3) ہاں رافضی..... اللہ عز وجل فرماتا ہے۔

ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم في شيء

بے شک جنہوں نے اپنادین مکڑے کلڑے کر دیا اور شیعہ ہو گئے اے نبی تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔

(سورۃ الانعام، رکوع ۲)

اس آیتہ کریمہ کے عدد ۲۸۲۸ ہیں اور یہی عدد ہیں روافض، اثناء عشریہ، شیطانیہ، اسماعیلیہ کے اور اگر اپنی طرح سے اسماعیلیہ میں الف چاہیے تو یہی عدد ہیں روافض اثناء عشریہ نصیریہ و اسماعیلیہ کے۔

(4) ہاں اور رافضی!..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لهم اللعنة ولهم سوء الدار** ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے ہے مُراگھر۔ (سورۃ الرعد، رکوع ۲) اس کے عدد ۲۲۳ ہیں اور یہی عدد ہیں شیطان الطاق طوی حلی کے۔

(5) نہیں اور رافضی!..... بلکہ اللہ عز وجل فرماتا ہے **أولئك هم الصديقوں والشهداء عند ربهم لهم اجر** وہی اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا ثواب ہے (سورۃ الحدید، رکوع ۳) اس کے اعداد ۱۳۲۵ ہیں

اور یہی عدد ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی سعید کے۔

(6) نہیں اور فاضی! بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولنک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجر و نور هم وہی اپنے رب کے حضور صدیق و شہید ہیں ان کے لئے ان کا ثواب اور ان کا نور (سورۃ الحمدید، رکوع ۳) اس کے اعداد ۹۲ ہے اور یہی عدد ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی طلحہ زیر سعید کے۔

(7) نہیں اور فاضی! بلکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے والذین امنوا بالله ورسلمه اولنک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم و نور هم جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہیں ان کے لئے ان کا ثواب اور ان کا نور (سورۃ الحمدید، رکوع ۳) اور یہی عدد ہیں صدیق، فاروق، ذوالنورین، علی، طلحہ، زیر، سعید، ابو عبیدہ، عبدالرحمٰن بن عوف کے۔

آخر میں فرمایا الحمد لله آییہ کریمہ کا تمام کمال جملہ مرح بھی پورا ہو گیا اور حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اسماء طیبہ بھی سب آگئے جس میں اصلاً تکلف و قصنع کو دخل نہیں۔ چند نوں سے آنکھ کھٹی ہے یہ تمام آیات عذاب و اسماء اشرار و آیات مرح و بہار نظر آتی مگر بعونہ تعالیٰ اس قدر بھی کافی ہے۔ **وَاللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَعْلَم**

(فقیر احمد رضا قادری غفرل)

اس فتویٰ کو نقل کر کے مستفتی نے لکھا ہے شیعہ رفاضی کا **اماشاء اللہ** ولیہ نہیں بلکہ قیمہ ہو گیا۔

اب مجال دم زون نہیں فقیر نے یہ کرامت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الہامت و جماعت و حشمت خود ملاحظہ کی کہ چند لمحوں میں ان تمام آیات و اعداد کی مطابقت زبان فیض والہام ترجمان سے فرمائی۔ یہ رات کا وقت تھا قریب نصف گزر چکی تھی **وَاللَّهُ بَاللَّهِ** عدو اخیار و اشرار کے اسماء بلا سوچے اور بے تائل کئے فرمادیئے کہ فقیر سوا اس کے اور اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا اظہار یہ ذریعہ القائے ربانی والہام سمجھانی تھا۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ۱۵۰، ۱۲۹)

وقت کے پیش نظر یہ چند جملے پیش کئے گئے ہیں ورنہ دفتر کے دفتر اس موضوع کے لئے بھر جائیں۔ انہی چند سطور کو مولیٰ عزوجل قبول فرمائے۔ (آمین)

فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ سید المرسلین و علیٰ آللہ واصحابہ اجمعین

فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

۱۹ صفر ۱۴۰۳ھ، بہاولپور پاکستان

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ